

## Tarjuma Tul Quran Majeed - FA Part 1 Tarjimatul Quran Chapter 5 Short Questions Test

Q1. الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ پنہون۔ مسکن۔ اتبعوہم۔ اعد۔ عزیز علیہ۔ حریض۔ حسبی اللہ۔

**Ans 1:** پنہون۔ وہ روکتے ہیں۔ مسکن۔ مکان۔ اتبعوہم۔ ان کی پیروی کی اعد۔ اس نے تیار کیے ہیں۔ عزیز علیہ۔ ان پر بہت گراں گزرتا ہے۔ حریض۔ خوابش مند ہیں۔ حسبی اللہ۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔

Q2. سورة التوبہ کون سی سورت ہے۔

**Ans 1:** سورة التوبہ مدنی سورت ہے۔

Q3. سورة ال عمران میں کن دو گروہوں سے خطاب ہے۔

**Ans 1:** سورة ال عمران کا خطاب خصوصیت کے ساتھ دو گروہوں کی طرف ہے۔ 1۔ ایک اہل کتاب یعنی یہودی اور مسیحی 2۔ دوسرے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر ایمان لائے۔

Q4۔ الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ العلیا۔ چقال۔ یامرون۔ سیرحمہم۔ السابقون۔

**Ans 1:** العلیا۔ اونچی، بالا۔ تقالا۔ بوجہل۔ یامرون۔ وہ حکم دیتے ہیں سیرحمہم۔ ان پر ضرور رحم فرمائے گا۔ السابقون۔ سبقت کرنے والے۔

Q5. سورة الانفال کے آغاز میں کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے۔

**Ans 1:** یہ سورت 2 ہ میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی اور اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ جہاں تک سورت کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً یہ ایک ہی تقریر ہے جو بیک وقت نازل فرمائی گئی ہوگی مگر ممکن ہے کہ اس کی بعض آیات جنگ بدر ہی سے پیدا شدہ مسائل کے متعلق بعد میں اتری ہوں اور پھر ان کو سلسلہ تقریر میں مناسب مقامات پر درج کر کے ایک مسلسل تقریر بنادیا گیا ہو۔ بہرحال کلام میں کہیں کوئی ایسا جوڑ نظر نہیں آتا جس سے یہ گمان کیا جاسکے کہ یہ الگ الگ دو تین خطیوں کا مجموعہ ہے۔

Q6. سورة البقرہ میں مال خرچ کرنے کی کیا ترتیب بتائی گئی ہے۔

**Ans 1:** اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی ہے کہ پہلے والدین، رشتہ داروں اور پھر دیگر حاجت مندوں پر خرچ کیا جائے۔

Q7۔ انفال یعنی مال غنیمت سے کیا مراد ہے۔

**Ans 1:** انفال نفل کی جمع ہے نفل زائد چیز کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کیوں کہ وہ اصل مقصود سے زائد ہوتا تھا۔ جہاد سے مقصود تو آخرت کار اجر اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ مال کا ملنا، اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطیہ ہے۔

Q8. غزوہ تبوک میں منافقین کا کیا کردار تھا؟

**Ans 1:** حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو اس کے تمام منافق ساتھیوں سمیت لشکر سے نکال باہر کیا۔ اہل ایمان نے اپنی

طاقت سے بڑھ کر ایثار کا مظاہرہ کیا اور پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ روانہ ہو گئے

سورة البقرہ میں کن برائیوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ Q9.

**Ans 1:** سورة البقرہ میں جن برائیوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے ان میں سے ایک سود ہے۔ سورة البقرہ میں سود کو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ سود ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ غربت، سستی، فضول خرچی اور تنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سود کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سود ادا کرنے والے مجبور لوگ کئی بار خود کٹی جیسا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں

سورة الانفال کی روشنی میں سچے ایمان والے کون ہیں؟ Q10.

**Ans 1:** سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اور اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ وہ آپس میں خیر خواہی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں